

ابتدائی الفاظ



کیا آپ جانتے ہیں؟

آپ کے بچے کی تصوّراتی صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس عمر کے بچے دلچسپ کہانیاں گھڑنا اور سنانا پسند کرتے ہیں۔ بچے پہلے کی نسبت لمبی کہانیاں سن سکتے ہیں اور 2-3 ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں۔ تاہم ان کیلئے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ اب اور زیادہ کام خود کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح وہ سکول کیلئے اچھی طرح تیار ہو جاتا ہے۔

زیادہ تر بچے اس ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان پنسل پکڑ سکتے ہیں جسے استعمال کرنا انہیں آسان لگتا ہو۔ سکول میں لکھائی کے کام کیلئے پنسل پکڑنے کا یہ طریقہ بہترین ہے۔ ٹرائنگ سے بچوں کے ہاتھ لکھائی کے قابل بنتے ہیں۔ اس عمر میں بچے محض پنسل سے نشان ڈالنے اور اصل حروف کے بیچ فرق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔

اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟

بچے کے ساتھ کتابیں، اشتهارات، نقشے، کہانوں کی ترکیبیں اور رسالے پڑھیں تاکہ بچے کی تصوّراتی صلاحیت اور علم میں اضافہ ہو۔

نئے گانے اور نظمیں بھی اور بچے کے پسندیدہ گانے بھی گائیں۔ ان گانوں کا انداز اور ان کی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو سکول میں پڑھنا سکھانے کیلئے استعمال ہونے والی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔

بچے کے ساتھ کہیلئے ہوئے اسے ابتدائی تصوّرات سکھائیں (جیسے 'آخری'، 'درمیانی'، 'پہلے'، 'گہرا'، 'اچھے'، 'زیادہ'، 'کم') اس طرح بچے کو سکول میں حساب کے مضمون میں مدد ملے گی۔

ٹی وی اور ویڈیو دیکھنے کا وقت دن میں 1-2 گھنٹے تک محدود رکھنے کی کوشش کریں۔ پروگراموں کے بارے میں بچے کے ساتھ باتیں کریں۔

بچے کو اس کے نام کے حروف پہچانتے، ادا کرنے اور لکھنا شروع کرنے کا شوق دلائیں۔ حروف کے نام بتائیں اور الفاظ میں حروف کی آوازوں سے واقفیت دلائیں۔

مٹی، فنگر پینٹ اور مومی رنگوں سے حروف اور اعداد لکھیں۔ بچے کو سمجھائیں کہ ایک حرف یا عدد کس طرف سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور کس طرف آگے بڑھتے ہیں۔ (پچھلی طرف دیکھیں)۔

کون لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟

مختلف بچوں کی نشوونما مختلف رفتار سے ہوتی ہے۔ تاہم اگر آپ کو کسی قسم کی فکر ہو تو دیر نہ کریں۔ ان لوگوں سے پوچھیں:

- رشتے دار اور دوست
- آپ کا مقامی ڈاکٹر، کمیونٹی نرس یا کمیونٹی ورکر
- پری سکول، چائلڈ کیئر سنٹر یا پلے گروپ کا عملہ۔
- اضافی ضروریات کی صورت میں آپ کا ڈاکٹر یا چائلڈ سپورٹ ورکر آپ کو مزید تجاویز دے سکتا ہے۔

Early Words کی ویب سائٹ – www.earlywords.info

انگلش میں چھوٹے اور بڑے حروف کیسے لکھتے ہیں

چھوٹے حروف

u y v w f j s

a d d (optional) g q c e o

n r m h k b p l t i x z

بڑے حروف

U C G O Q J S

B P R D I L E F H T
(optional)

A V W M N K Y X Z

The numbers

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Taken from *Introducing the English K-6 Syllabus to Parents and School Community Members* NSW Board Of Studies 1998 p23)